



## الْأَحْزَابِ

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اے نبی ڈرتے رہو اللہ سے اور نہ اطاعت کرنا کافروں اور منافقوں کی۔ بیشک اللہ ہے جاننے والا بڑی حکمت والا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١﴾

اور پیروی کرو اسکی جو وحی کی جاتی ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے۔ بیشک اللہ ہے اس سے جو تم کرتے ہو باخبر۔

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾

اور توکل کرو اللہ پر اور کافی ہے اللہ کام بنانے والا۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾

نہیں بنائے اللہ نے کسی شخص کیلئے دو دل اسکے سینے میں۔ اور نہ بنایا تمہاری بیویوں کو جنکو کہہ دیتے ہو تم ماں ان میں سے تمہاری

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَ مَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الّٰئِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ

مائیں۔ اور نہ بنایا تمہارے لے پالکوں کو تمہارے  
بیٹے۔ یہ باتیں ہیں تمہارے منہ کی۔ اور اللہ  
فرماتا ہے سچ اور وہ ہدایت دیتا ہے راستہ پر۔

أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ  
بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ  
يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

پکارا کرو انہیں انکے باپوں کی نسبت سے یہی  
زیادہ منصفانہ ہے اللہ کے نزدیک۔ پس اگر  
نہ معلوم ہوں تمکو انکے باپ تو تمہارے بھائی  
ہیں دین میں اور تمہارے دوست ہیں۔ اور  
نہیں تم پر گناہ اس میں تم سے غلطی ہو گئی  
جسکی۔ لیکن جو ارادہ کرو اپنے دلوں سے۔ اور  
ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ  
اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيكُمْ وَ  
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ  
بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

نبی زیادہ مقدم ہے مومنوں پر انکی جانوں سے  
اور اسکی بیویاں مائیں ہیں انکی۔ اور رشتہ دار  
ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں اللہ کی  
کتاب کی رو سے بنسبت مومنوں اور مہاجرین  
کے۔ مگر یہ کہ تم کرنا چاہو اپنے دوستوں کے  
ساتھ احسان۔ ہے یہ کتاب میں لکھ دیا گیا۔

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ  
وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ  
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ  
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ  
تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ  
ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

اور جب لیا ہم نے نبیوں سے انکا عہد اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے۔ اور لیا ہم نے ان سے عہد بہت مضبوط۔

وَ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ  
وَمِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ اِبْرٰهِيْمَ  
وَمُوسٰى وَ عِيسٰى ابْنِ مَرْيَمَ  
وَ اَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

تاکہ وہ دریافت کرے سچ کہنے والوں سے انکی سچائی کے بارے میں۔ اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لئے عذاب دکھ دینے والا۔

لِيَسْئَلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ  
وَ اَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے یاد کرو اس نعمت کو اللہ کی اپنے اوپر جب چڑھ آئیں تم پر فوجیں تو بھیجی ہم نے ان پر آندھی اور ایسے لشکر نہیں دیکھ سکتے تھے تم جنکو اور ہے اللہ اسکو جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ  
اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ  
فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَ جُنُوْدًا لَّمْ  
تَرَوْهَا وَ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ  
بَصِيْرًا

جب وہ چڑھ آئے تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے اور جب پتھرا گئی تھیں آنکھیں اور پہنچ گئے دل گلوں تک اور تم گمان کرنے لگے اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان۔

اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ  
اَسْفَلِ مِنْكُمْ وَ اِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ  
وَ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحٰجِرَ وَ تَظُنُّوْنَ  
بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَ

یہاں اس موقع پر آزمائے گئے ایمان والے اور  
ہلا ہلا دیئے گئے جھٹکوں سے شدت کے۔

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوا  
زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾

اور جب کہنے لگے منافقین اور وہ لوگ جنکے  
دلوں میں بیماری تھی کہ نہیں وعدہ کیا تھا ہم  
سے اللہ اور اسکے رسول نے مگر دھوکے کا۔

وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي  
قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ  
وَ رَسُولُهُ إِلَّا عُرُورًا ﴿١٢﴾

اور جب کہتی تھی ایک جماعت ان میں سے  
کہ اے اہل یثرب نہیں ٹھہرنے کا مقام  
تمہارے لئے تو لوٹ چلو۔ اور اجازت مانگنے  
لگا ایک گروہ ان میں سے نبی سے۔ کہنے لگے  
بلاشبہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں۔ حالانکہ  
نہیں تھے وہ کھلے۔ نہیں چاہتے تھے وہ مگر  
فرار ہونا۔

وَ إِذْ قَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ  
يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا  
وَ يَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ  
يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ  
بِعَوْرَةٍ أَوْ لَا يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾

اور اگر داخل ہو جائیں (فوجیں) ان پر اس  
(مدینہ) کے اطراف سے پھر کہا جائے ان  
سے فتنے کے لئے تو ضرور کرنے لگیں گے  
اور نہ توقف کریں گے اسکا مگر بہت کم۔

وَ لَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا  
تُمَّ سِيلُوا الْفِتْنَةَ لَاتَوْهَا وَمَا  
تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾

حالانکہ وہ عمد کر چکے تھے اللہ سے اس سے

وَ لَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ



پہلے کہ نہیں پھیریں گے بیٹھیں۔ اور ہوگی  
اللہ سے کئے ہوئے عہد کی پوچھ گچھ۔

لَا يُؤْلُونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ  
مَسْئُولًا ﴿٥٦﴾

کھدو کہ ہرگز نہیں فائدہ دے گا تمکو فرار ہونا اگر  
تم فرار ہوتے ہو موت سے یا قتل ہو جانے  
سے اور اس صورت میں نہ تم فائدہ اٹھا پاؤ  
گے مگر بہت تھوڑا۔

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ  
مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا  
تُجْتَنُّونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٦﴾

کھدو کہ کون ہے وہ ذات جو تمکو بچا سکے اللہ سے  
اگر وہ ارادہ کر لے تمہارے ساتھ برائی کا یا ارادہ  
کر لے تم پر مہربانی کا۔ اور نہ پائیں گے وہ  
اپنے لئے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور  
نہ مددگار۔

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ  
اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ  
بِكُمْ رَحْمَةً ط وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ  
دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٥٧﴾

یقیناً جانتا ہے اللہ رکاوٹیں ڈالنے والوں کو تم  
میں سے اور کہنے والوں کو اپنے بھائیوں سے کہ  
چلے آؤ ہمارے پاس۔ اور نہیں آتے وہ لڑائی  
میں مگر بہت کم۔

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ  
وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا  
وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٨﴾

بخل کرتے ہیں تمہارے بارے میں۔ پھر

أَشْحَةً عَلَيْكُمْ ص فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ

جب آجائے ڈر کا وقت تو تم انکو دیکھو کہ دیکھ رہے ہیں تمہاری طرف پھر رہی ہیں انکی آنکھیں جیسے کسی کو غشی آرہی ہو اس پر موت سے۔ پھر جب جاتا رہے خوف تو باتیں کریں تمہارے بارے میں تیز تیز زبانوں کے ساتھ بخیل ہو کر مال میں۔ یہ لوگ نہ ہی لائے تھے ایمان تو برباد کر دیئے اللہ نے انکے اعمال۔ اور تھا یہ اللہ کو بہت آسان۔

رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ  
أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ  
الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْحَافِرُ سَلَقُواكُمْ  
بِالسِّنَةِ حِدَادٍ أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ  
أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ  
أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ  
يَسِيرًا

خیال کرتے ہیں وہ کہ فوجیں نہیں گئیں۔ اور اگر آجائیں لشکر تو تمنا کریں گے کاش وہ جارہیں خانہ بدوشوں میں پوچھتے رہیں تمہاری خبریں۔ اور اگر ہوں وہ تمہارے درمیان تو نہ لڑائی کریں مگر بہت کم۔

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا  
وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ  
أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ  
عَنْ أَنْبَاءِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا  
قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا

یقیناً ہے تمہارے لئے اللہ کے رسول میں نمونہ بہترین ہر اس شخص کے لئے جسے امید ہو اللہ کی اور روز قیامت کی اور وہ ذکر کرتا ہو اللہ کا کثرت سے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ  
حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ  
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

اور جب دیکھا مومنوں نے فوجوں کو۔ تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اسکے رسول نے اور سچ کہا تھا اللہ اور اسکے رسول نے۔ اور نہ زیادہ ہوئی ان کی مگر ایمان اور اطاعت۔

وَمَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

مومنوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا جو اقرار کیا تھا انہوں نے اللہ سے اسکو۔ پھر ان میں وہ ہیں جنہوں نے پوری کر دی اپنی نذر اور ان میں وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ اور نہیں بدلا انہوں نے۔ ذرا بھی تبدیلی۔

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

تاکہ جزا دے اللہ سچوں کو انکی سچائی کی اور عذاب دے منافقوں کو اگر چاہے یا توبہ قبول کر لے ان کی۔ بیشک اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾

اور لوٹا دیا اللہ نے انکو جنہوں نے کفر کیا انکے غصے میں بھرا ہوا۔ نہ حاصل کر سکے کچھ بھلائی۔ اور کافی ہو گیا اللہ مومنوں کیلئے لڑائی میں اور ہے اللہ زور آور غالب۔

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾

اور اتار دیا اس نے اُنکو جنہوں نے اُنکی مدد کی  
تھی اہل کتاب میں سے اُنکے قلعوں سے اور  
ڈال دی اُنکے دلوں میں دہشت۔ تو ایک  
گروہ کو تم قتل کر دیتے تھے اور قید کر لیتے تھے  
ایک گروہ کو۔

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِّنْ أَهْلِ  
الْكِتَابِ مِّنْ صِيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي  
قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ  
وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٦﴾

اور وارث بنا دیا اس نے تمکو اُنکی زمین کا اور  
اُنکے گھروں کا اور اُنکے مالوں کا اور اس زمین  
کا نہیں قدم بھی رکھا تم نے جس میں۔  
اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔

وَأَوْثَاقَكُمْ أَرْضَهُمْ وَ دِيَارَهُمْ وَ  
أَمْوَالَهُمْ وَ أَرْضًا لَّهُمْ تَطَّوُّهَا  
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾

اے نبی کہدو اپنی بیویوں سے اگر ہو تم  
طلبگار دنیا کی زندگی کی اور اسکی نینت کی تو آؤ  
میں تمہیں کچھ مال دوں اور تم کو رخصت کر  
دوں۔ ایک اچھی رخصت۔

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنِ  
كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا  
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ  
سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾

اور اگر ہو تم طلبگار اللہ اور اسکے رسول کی اور  
آخرت کے گھر کی تو یقیناً اللہ نے تیار کر رکھا  
ہے نیکوکاروں کے لئے تم میں سے اجر عظیم۔

وَ إِنِ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ  
وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ  
لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا  
عَظِيمًا ﴿٢٩﴾



اے بیویوں نبی کی جو کوئی کرے گی تم میں سے  
 ناشائستہ حرکت کھلی ہوئی۔ دیا جائے گا اسکو  
 عذاب دوگنا۔ اور ہے یہ بات اللہ کو بہت  
 آسان۔

يُنْسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ  
 بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَفْ لَهَا  
 الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى  
 اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٢٠﴾

اور جو فرمانبردار رہے گی تم میں سے اللہ کی اور  
 اسکے رسول کی اور کرے گی عمل نیک۔ دیں  
 گے ہم اسکو اس کا اجر دوگنا اور تیار کر رکھا ہے  
 ہم نے اسکے لئے رزق عزت کا۔

وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ  
 وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتَهَا أَجْرَهَا  
 مَرَّتَيْنِ وَاعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا  
 كَرِيمًا ﴿٢١﴾

اے بیویوں نبی کی نہیں ہو تم کسی اور طرح کی  
 عورتوں میں سے۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو  
 نہ اختیار کرو نرمی بات کرنے میں کہ لالچ میں  
 پڑ جائے وہ شخص جسکے دل میں روک ہے۔  
 اور کہا کرو تم بات دستور کے مطابق۔

يُنْسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ  
 النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ  
 بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ  
 مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٢٢﴾

اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں اور نہ اظہار  
 نینت کرو۔ زیب و نمائش پہلے دور جاہلیت  
 کی۔ اور قائم کرتی رہو نماز اور دیتی رہو زکوٰۃ اور

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ  
 تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَاقِمْنَ  
 الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَاطِعْنَ

اللَّهُ وَرَسُولَهُ<sup>ط</sup> إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ  
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ  
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا<sup>ع</sup>

اطاعت کرتی رہو اللہ اور اسکے رسول کی۔ بس  
چاہتا ہے اللہ کہ دور کر دے تم سے جس اے  
اہل بیت اور تمکو پاک کر دے۔ بہت پاک۔

وَإِذْ كُنَّا مَا يَتْلُو فِي بُيُوتِكُنَّ  
مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا<sup>ع</sup>

اور یاد رکھو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں  
میں اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں۔ بیشک  
اللہ ہے باریک بین باخبر۔

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ  
وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ  
وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ  
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ  
وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ  
وَالصَّامِينَ وَالصَّامَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ  
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ

یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد  
اور مومن عورتیں اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار  
عورتیں اور راستباز مرد اور راستباز عورتیں اور صبر  
کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور  
عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی  
عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات  
کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد  
اور روزے رکھنے والی عورتیں اور حفاظت کرنے  
والے مرد اپنی شرمگاہوں کی اور حفاظت کرنے  
والی عورتیں اور یاد کرنے والے مرد اللہ کو

كَثِيرًا ۚ وَ الذُّكْرِ ۚ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ  
مَغْفِرَةً ۚ وَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

کثرت سے اور یاد کرنے والی عورتیں۔ تیار کر رکھا  
ہے اللہ نے انکے لئے مغفرت اور اجر عظیم۔

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا  
قَضَى اللهُ وَ رَسُوهُ أَمْرًا أَنْ  
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ  
وَ مَنْ يَعْصِ اللهَ وَ رَسُوهُ فَقَدْ  
ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

اور نہیں ہے (حق) کسی مومن مرد کو اور نہ  
مومن عورت کو کہ جب فیصلہ کر دے اللہ اور  
اس کا رسول کسی معاملے کا تو رہ جائے ان  
کے پاس کچھ اختیار اپنے معاملات میں۔ اور جو  
کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اسکے رسول کی تو  
بیشک وہ گمراہ ہو گیا۔ کھلی گمراہی میں۔

وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ  
وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ  
زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللهَ وَ تُخْفِي فِي  
نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى  
النَّاسَ وَ اللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ  
فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا  
زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ

اور جب تم کہتے تھے اس شخص سے احسان کیا  
تھا اللہ نے جس پر اور تم نے احسان کیا تھا  
اس پر کہ رہنے دے اپنے پاس اپنی بیوی کو اور  
ڈر اللہ سے اور چھپا رہے تھے تم اپنے دل  
میں وہ جسکو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور ڈرتے  
تھے تم لوگوں سے۔ حالانکہ اللہ زیادہ مستحق  
ہے کہ ڈرو اس سے۔ پھر جب پوری کر لی زید  
نے اس سے اپنی حاجت تو نکاح کر دیا ہم  
نے تمہارا اس سے ناکہ نہ رہے مومنوں پر تنگی

انکے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں جب وہ پوری کر لیں ان سے اپنی حاجت۔ اور ہے اللہ کا حکم واقع ہو کر رہنے والا۔

أَدْعِيَاءِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا ط  
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٢٧﴾

نہیں ہے نبی پر کوئی تنگی اس میں جو فرض کر دیا اللہ نے اسکے لئے۔ یہی سنت ہے اللہ کی ان کے بارے میں جو گذر چکے ہیں پہلے۔ اور ہے اللہ کا حکم طے شدہ۔ قطعی طے شدہ۔

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ط ﴿٢٨﴾

وہ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات اور ڈرتے ہیں اس سے اور نہیں ڈرتے کسی اور سے سوائے اللہ کے۔ اور کافی ہے اللہ حساب کو۔

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ط وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٢٩﴾

نہیں ہیں محمد باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے لیکن رسول ہیں اللہ کے اور آخری ہیں نبیوں میں۔ اور ہے اللہ ہر چیز سے واقف۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ ط وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٠﴾

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ذکر کیا کرو اللہ کا۔ ذکر کثرت کے ساتھ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٣١﴾



وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾

اور تسبیح بیان کرتے رہو اسکی صبح اور شام۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَ مَلِكُتُهُ  
لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ  
وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَاحِمًا ﴿٤٣﴾

وہ ہی تو ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اسکے  
فرشتے تاکہ نکال لائے تم کو اندھیروں سے  
روشنی کی طرف۔ اور وہ ہے مومنوں پر مہربان۔

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۗ وَ أَعَدَّ  
لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾

ان کی دعا جس روز وہ اس سے ملیں گے سلام  
ہے۔ اور اس نے تیار کر رکھا ہے انکے لئے  
اجر عزت والا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا  
وَأَمْبَشِيرًا وَ نَذِيرًا ﴿٤٥﴾

اے نبی بیشک ہم نے بھیجا ہے تمکو گواہی  
دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار  
کرنے والا۔

وَ دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجًا  
مُنِيرًا ﴿٤٦﴾

اور بلانے والا اللہ کی طرف اسی کے حکم سے  
اور چراغ روشن۔

وَ بَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ  
فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٤٧﴾

اور خوشخبری سنا دو مومنوں کو کہ انکے لئے ہے  
اللہ کی طرف سے فضل بہت بڑا۔

وَ لَا تُطِعِ الْكٰفِرِينَ وَ الْمُتَفِيقِينَ  
وَ دَعُ أٰذِهِمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

اور نہ کہا ماننا کافروں کا اور منافقوں کا اور پرواہ  
نہ کرنا انکے تکلیف دینے پر اور بھروسہ رکھنا

وَ كَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا ﴿٤٨﴾

اللہ پر۔ اور کافی ہے اللہ کارساز۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ  
الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ  
أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ  
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ  
وَسَرَ حُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نکاح  
کرو مومن عورتوں سے پھر طلاق دیدو ان کو اس  
سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو تو نہیں  
تمہارے لئے لازم ان کے اوپر کوئی عدت کہ  
ان سے پوری کراؤ۔ تو انکو کچھ متاع دے دو اور  
انکو رخصت کر دو۔ ایک اچھی رخصت۔

اے نبی بیشک ہم نے حلال کر دی ہیں  
تمہارے لئے تمہاری بیویاں جنکو تم نے دیئے  
میں انکے مہر اور تمہاری باندیاں ان میں سے  
جو غنیمت میں دلوانی ہیں اللہ نے تمکو اور  
بیٹیاں تمہارے چچا کی اور بیٹیاں تمہاری  
پھوپھیوں کی اور بیٹیاں تمہارے ماموؤں کی اور  
بیٹیاں تمہاری خالاول کی وہ جنہوں نے ہجرت  
کی ہے تمہارے ساتھ۔ اور کوئی عورت مومنہ  
اگر نذر کر دے اپنے آپکو نبی کے اگر چاہے نبی کہ  
اس سے نکاح کر لے۔ خالصتاً تمہارے لئے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ  
أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ  
وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ  
اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ  
وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ  
خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ  
وَأَمْرًا مُّؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ  
نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ  
النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا  
خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ  
الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا

ہے علاوہ اور مومنوں کے۔ یقیناً ہمیں معلوم ہے جو فرض کر دیا ہے ہم نے ان پر انکی بیویوں کے بارے میں اور باندیوں کے تاکہ نہ رہے تم پر تنگی اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔

فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ اَزْوَاجِهِمْ وَ مَا  
مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ  
عَلَيْكَ حَرَجٌ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا  
رَّحِيْمًا

دور رکھو جس کو تم چاہو ان میں سے اور پاس رکھو اپنے جسے تم چاہو۔ اور جنکو تم اپنے پاس طلب کر لو ان میں سے جنکو دور کر دیا تھا تو نہیں گناہ تم پر۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ ٹھنڈی رہیں انکی آنکھیں اور نہ ہوں وہ رنجیدہ اور راضی رہیں اس پر جو تم انکو دو وہ سب کی سب۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اور ہے اللہ جاننے والا بردبار۔

تُرْجَىٰ مِنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَ تُوَيَّ  
اِلَيْكَ مِنْ تَشَاءُ وَ مَنْ اَبْتَغَيْتَ  
مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ  
ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ تَقْرَ اَعْيُنُهُنَّ وَ لَا  
يُحْزَنَ وَ يَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ  
كُلُّهُنَّ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ  
وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا

نہیں حلال تمہارے لئے عورتیں اسکے بعد اور نہ یہ کہ تم بدلوان کی جگہ اور بیویاں اگرچہ تمہیں اچھا ہی لگے ان کا حق سوائے تمہاری باندیوں کے۔ اور ہے اللہ ہر چیز پر نگہبان۔

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَا اَنْ  
تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ  
حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ  
وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے نہ داخل ہو گھروں  
 میں نبی کے سوائے یہ کہ اجازت دی جائے  
 تمکو کھانے کیلئے۔ نہ انتظار کرتے رہو اسکے پچنے  
 کا۔ لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو  
 پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور نہ جی لگا کر  
 بیٹھے رہو باتوں میں۔ بیشک تمہاری یہ بات  
 ایذا دہتی ہے نبی کو پس وہ حیا کرتے ہیں تم  
 سے اور اللہ نہیں شرماتا حق بات کہنے سے۔  
 اور جب مانگو ان سے کوئی شے تو مانگو ان سے  
 پردے کے باہر سے۔ تمہاری یہ بات زیادہ  
 پاکیزگی کی ہے تمہارے دلوں کے لئے اور ان  
 کے دلوں کیلئے۔ اور نہیں ہے (مناسب)  
 تمہارے لئے کہ تکلیف دو رسول اللہ کو اور نہ  
 یہ کہ نکاح کرو انکی بیویوں سے انکے بعد کبھی۔  
 بیشک یہ ہے اللہ کے نزدیک بڑا (گناہ)۔

اگر تم ظاہر کرو کسی چیز کو یا مخفی رکھو اسکو تو بیشک  
 اللہ ہے ہر شے سے باخبر۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا  
 بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ  
 إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ  
 إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ  
 فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ  
 إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ  
 فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي  
 مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا  
 فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ  
 أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ  
 لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ  
 تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا  
 إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا



نہیں گناہ ان پر اپنے باپوں سے (پردہ نہ کرنے میں) اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھتیجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے اور نہ اپنی خواتین سے اور نہ اپنے باندی غلاموں سے اور ڈرتی رہو اللہ سے۔ بیشک اللہ ہے ہر چیز سے واقف۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

بیشک اللہ اور اسکے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی (ﷺ) پر۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم درود بھیجو ان پر اور سلام بھیجو۔ کثرت سے سلام۔

إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

بیشک وہ لوگ جو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ اور اسکے رسول کو لعنت کرتا ہے ان پر اللہ دنیا میں اور آخرت میں اور تیار کر رکھا ہے اس نے انکے لئے عذاب ذلیل کرنے والا۔

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر اسکے جو انہوں نے کیا ہو تو یقیناً انہوں نے اٹھایا اپنے اوپر بہتان اور صریح

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَّا اكْتَسَبُوا فَكَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَّ إِشْمًا

اے نبی کمدو اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہ ڈال لیا کریں اپنے اوپر اپنی چادریں۔ یہ قریب تر ہے کہ انکی پہچان ہو جائے تو نہ ایذا دی جائے انہیں۔ اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥١

اگر نہ باز آئیں گے منافقین اور وہ لوگ جنکے دلوں میں روک ہے اور جھوٹی افواہیں اڑانے والے مدینے میں تو ہم ضرور پیچھے لگا دیں گے تمکو انکے پھر نہ رہ سکیں گے وہ تمہارے ہمسائے اس میں مگر تھوڑے دن۔

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُتَفِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ٥٦

پھٹکارے ہوئے۔ جہاں کہیں پائے جائیں پکڑے جائیں اور قتل کئے جائیں۔ سخت قتل۔

مَلْعُونِينَ ۚ أَيَّمَا ائْتِمَا تُقِفُوا أَخَذُوا وَقَتَلُوا تَقْتِيلًا ٥٧

یہی دستور ہے اللہ کا ان لوگوں کے بارے میں جو گزر چکے ہیں پہلے۔ اور ہرگز نہ پاؤ گے تم اللہ کے دستور میں تغیر و تبدل۔

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ٥٢

سوال کرتے ہیں تم سے لوگ قیامت کے بارے میں۔ کہدو کہ درحقیقت اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور کیا تمہیں معلوم کہ شاید قیامت آگئی ہو قریب ہی۔

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ <sup>ط</sup> قُلْ  
إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ  
لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾

بیشک اللہ نے لعنت کی ہے کافروں پر اور تیار کر رکھی ہے انکے لئے جہنم کی آگ۔

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ  
سَعِيرًا ﴿٦٤﴾

رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ۔ نہ پائیں گے کوئی دوست اور نہ مددگار۔

خٰلِدِينَ فِيهَا اَبَدًا لَا يَجِدُوْنَ  
وٰلِيًا وَلَا نٰصِيْرًا ﴿٦٥﴾

جس دن الٹ پلٹ کئے جائیں انکے چہرے آگ میں تو کہیں گے اے کاش ہم اطاعت کرتے اللہ کی اور اطاعت کرتے رسول کی۔

يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّٰرِ  
يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَ اَطَعْنَا  
الرَّسُوْلًا ﴿٦٦﴾

اور کہیں گے ہمارے رب بیشک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی تو بھٹکا دیا انہوں نے بھکورا سے۔

وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا  
وَ كُبْرٰآءَنَا فَاَصْلُوْنَا السَّبِيْلًا ﴿٦٧﴾

ہمارے رب دے انکو دگنا عذاب اور کر لعنت ان پر۔ بہت بڑی لعنت۔

رَبَّنَا اَتٰهُمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعٰذَابِ  
وَ الْعَنٰهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ﴿٦٨﴾

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ ہونا تم ان لوگوں جیسے اذیت پہنچائی جنہوں نے موسیٰ کو تو بری ثابت کر دیا اسکو اللہ نے اس سے جو کہا انہوں نے۔ اور وہ تھا اللہ کے نزدیک باآبرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿٦١﴾

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے اور کہا بات سیدھی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

سنوار دے گا وہ تمہارے لئے تمہارے اعمال اور بخش دے گا تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو۔ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اسکے رسول کی تو بیشک وہ مراد پائے گا۔ بہت بڑی مراد۔

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَ يُعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

بیشک ہم نے پیش کیا اس امانت کو آسمانوں کو اور زمین اور پہاڑوں کو تو انہوں نے انکار کیا کہ وہ اسکو اٹھائیں اور وہ ڈر گئے اس سے۔ اور اٹھالیا اسکو انسان نے۔ بیشک وہ ہے بڑا ظالم بڑا جاہل۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَ أشفقنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾



تا کہ عذاب دے اللہ منافق مردوں اور منافق  
عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو اور  
توبہ قبول کرے اللہ مومن مردوں کی اور مومن  
عورتوں کی۔ اور ہے اللہ بہت بخشنے والا ہے  
بڑا مہربان۔

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ  
وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ  
اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا<sup>ع</sup>

